


FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Appeal No. 2429/2023


S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	17/11/2023	<p>The appeal of Mr. Muhammad Arif received today by registered post through Mr. Muhammad Riaz Advocate. It is fixed for preliminary hearing before touring Single Bench at A.Abad on</p> <p>By the order of Chairman</p> <p> REGISTRAR</p>

The appeal of Mr. Raja Muhammad Arif son of Muhammad Khuzna resident of Narsa Tehsil and District Kohistan received today i.e on 08.11.2023 is incomplete on the following score which is returned to the counsel for the appellant for completion and resubmission within 15 days.

- 1- Copy of rejection order of departmental appeal dated 11.10.2023 mentioned in para-6 of the memo of appeal is not attached with the appeal. The copy of Annexure-G attached with the appeal is letter for submission to employer/department but a rejection order of departmental appeal.
- 2- Annexures of the appeal are unattested.
- 3- Departmental appeal is unsigned.
- 4- One more copy/set of the appeal along with annexures i.e. complete in all respect may also be submitted with the appeal.

No. 3561 /S.T,

Dt. 10-11 /2023.



REGISTRAR
SERVICE TRIBUNAL
KHYBER PAKHTUNKHWA
PESHAWAR.

Mr. Muhammad Riaz Adv.
High Court A.Abad.

P.T.O

objection 12th removed as
per objection and objection 35 - appeal
Signed

Kindly fixed before working
Advanced for work



16-11-023

**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER
PAKHTUNKHWA, PESHAWAR**

Service Appeal No. 2429 /2023

Raja Muhammad Arif son of Muhammad Khushal, resident of Dassu, Tehsil Dassu, District Kohistan Upper, presently at GHS Pero Bela, Kohistan Upper.

...APPELLANT

VERSUS

Govt. of Khyber Pakhtunkhwa, through Secretary, Elementary & Secondary Education, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar & others.

...RESPONDENTS

SERVICE APPEAL

INDEX

S.#	Description	Page #	Annexure
1.	Service appeal along with affidavit	1 to 9	
2.	List of books	10	
3.	Copy of show cause notice	11	"A"
4.	Copy of reply	12-13	"B"
5.	Copies of written question and answer	14-17	"C" & "D"
6.	Copy of impugned order	18	"E"
7.	Copies of departmental appeal and order dated 11.10.2023	19-20	"F" & "G"
8.	Copy of affidavit	21	"H"
9.	Waka a'nama	22-23	


...APPELLANT

Through

Dated: 06.11.2023


(MUHAMMAD RIAZ)
Advocate High Court, Abbottabad

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER
PAKHTUNKHWA, PESHAWAR

Service Appeal No 2629 /2023

Raja Muhammad Arif son of Muhammad Khushal, resident of Dassu, Tehsil Dassu, District Kohistan Upper, presently at GHS Pero Bela, Kohistan Upper.

...APPELLANT

VERSUS

1. Govt. of Khyber Pakhtunkhwa, through Secretary, Elementary & Secondary Education, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
2. Director, Elementary & Secondary Education, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
3. District Education Officer (Male), Kohistan Upper.

...RESPONDENTS

SERVICE APPEAL UNDER SECTION 4 OF
KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE
TRIBUNAL ACT, 1974, FOR DECLARATION
TO THE EFFECT THAT THE APPELLANT
HAS BEEN REVERTED FROM SENIOR
CLERK (BPS-14) TO JUNIOR CLERK (BPS-11)

VIDE IMPUGNED ORDER BEARING NO.4154-58 DATED 22.07.2023 DUE TO THE REASON OF DEMANDING HUSH MONEY/ BRIBERY BY THE APPELLANT AND AGAINST THE ORDER DATED 17.10.2023, WHEREBY, THE RESPONDENT NO.2 DISMISSED THE DEPARTMENTAL APPEAL OF THE APPELLANT WHICH ARE ILLEGAL, UNLAWFUL, WITHOUT LAWFUL AUTHORITY, PERVERSE AND AGAINST THE FACTS AND ARE LIABLE TO BE SET-ASIDE.

PRAYER: ON ACCEPTANCE OF THE INSTANT SERVICE APPEAL, THE REVERSION FROM SENIOR CLERK (BPS-14) TO JUNIOR CLERK (BPS-11) VIDE IMPUGNED ORDER DATED 22.07.2023 MAY GRACIOUSLY BE SET-ASIDE AND RESPONDENTS MAY KINDLY BE DIRECTED TO RESTORE THE APPELLANT AS SENIOR CLERK W.E.F THE DATE OF REVERSION WITH ALL SERVICE BACK BENEFITS. ANY OTHER RELIEF WHICH THIS HONOURABLE

TRIBUNAL DEEM APPROPRIATE MAY ALSO
BE ALLOWED TO THE APPELLANT.

Respectfully Sheweth: -

1. That the appellant was posted as Senior Clerk (BPS-14) in the office of Sub-Divisional Officer (Male) Kohistan.
2. That the appellant was served with show cause notice/ statement of allegation bearing No.3894/Estt:(pry)/DEO (M) KH dated 13.07.2023, wherein, he was charged for demanding hush money/ bribery for appointment of Primary School Teacher against the vacant seat lying vacant in adjacent Union Council. (Copy of show cause notice is annexed as Annexure "A").
3. That the appellant categorically denied the allegations leveled against him in written reply dated 15.07.2023. (Copy of reply is annexed as Annexure "B").

4. That thereafter the appellant was called for personal hearing but in mechanical way and the appellant was compelled to answer the question put to him in written form to which he replied accordingly. (Copies of written question and answer are annexed as Annexure "C" & "D").
5. That the appellant has been illegally reverted from the post of Senior Clerk (BPS-14) to Junior Clerk (BPS-11) vide impugned order bearing No.4154-58 dated 22.07.2023. (Copy of impugned order is annexed as Annexure "E").
6. That being aggrieved from the impugned order, the appellant filed departmental appeal on 09.08.2023 and the appeal of the appellant was dismissed vide order dated 11.10.2023. (Copies of departmental appeal and order dated 11.10.2023 are annexed as Annexure "F" & "G").
7. That the appellant being aggrieved from the impugned orders dated 22.07.2023 and

11.10.2023, seeks the gracious indulgence of this Honourable Tribunal, inter-alia, on the following grounds: -

GROUNDS:-

- (a) That the impugned reversion order dated 22.07.2023 is illegal, unlawful, without lawful authority, arbitrary, perverse, against the principle of natural justice, hence, ineffective upon the rights of the appellant and are thus liable to be set-aside.
- (b) That the act of respondents' towards appellant is a sheer example of highhandedness and political motivation. Hence, reversion order is liable to be set-aside.
- (c) That, respondents have led the appellant to the place which is utterly unknown to the principle of natural justice, law and jurisprudence.

6.

- (d) That this is a settled principle of good administration that when law prescribe something which is to be done in a particular manner that must be done in that manner and not otherwise, as the appellant was illegally reverted Senior Clerk (BPS-14) to Junior Clerk (BPS-11), hence, the impugned reversion order is liable to be set aside.
- (e) That the reversion order is based on the complaint made by the one Yousaf who tender affidavit that the allegation leveled against the appellant is based on personal vendetta and is against the fact and reality. (Copy of affidavit is annexed as Annexure "H").
- (f) That neither the proper inquiry was conducted by the respondents to dig-out the reality nor the complainant was ever associated in the process while passing the impugned order.

- (g) That the alleged audio recording was never sent for forensic and the same cannot be used against the appellant.
- (h) That there is no cavil with the proposition that the Honourable Tribunal should not fold up its hands while granting relief to the aggrieved appellant as the appellant has not been afforded opportunity of proper personal hearing. Hence, impugned reversion order is liable to be set-aside.
- (i) That the valuable rights of the appellant are involved. The respondents tried to snatch bread and butter of the appellant as well as his dependent family members.
- (j) That there is no other prompt and efficacious remedy available to the appellant except the invocation of

jurisdiction of this Honourable
Tribunal.

- (k) That the other grounds shall be urged
at the time of arguments.

It is, therefore, very humbly prayed that on
acceptance of the instant service appeal, the
reversion from Senior Clerk (BPS-14) to Junior
Clerk (BPS-11) vide impugned order dated
22.07.2023 may graciously be set-aside and
respondents may kindly be directed to restore the
appellant as senior clerk w.e.f the date of reversion
with all service back benefits. Any other relief
which this Honourable Tribunal deem appropriate
may also be allowed to the appellant.


...APPELLANT

Through

Dated: 06.11.2023


(MUHAMMAD RIAZ)
Advocate High Court, Abbottabad

VERIFICATION:-

Verified on oath that the contents of foregoing appeal are true and correct to
the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein
from this Honourable Tribunal.


...APPELLANT

**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER
PAKHTUNKHWA, PESHAWAR**

Service Appeal No. _____/2023

Raja Muhammad Arif son of Muhammad Khushal, resident of Dassu, Tehsil Dassu, District Kohistan Upper, presently at GHS Pero Bela, Kohistan Upper.

...APPELLANT

VERSUS

Govt. of Khyber Pakhtunkhwa, through Secretary, Elementary & Secondary Education, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar & others.

....RESPONDENTS

SERVICE APPEAL

AFFIDAVIT

I, Raja Muhammad Arif son of Muhammad Khushal, resident of Dassu, Tehsil Dassu, District Kohistan Upper, presently at GHS Pero Bela, Kohistan Upper, do hereby solemnly affirm and declare on oath that the contents of foregoing service appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein from this Honourable Tribunal.



7/11/23

Raja Muhammad Arif
DEPONENT

**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER
PAKHTUNKHWA, PESHAWAR**

Service Appeal No. _____/2023

Raja Muhammad Arif son of Muhammad Khushal, resident of Dassu, Tehsil Dassu, District Kohistan Upper, presently at GHS Pero Bela, Kohistan Upper.

...APPELLANT

VERSUS

Govt. of Khyber Pakhtunkhwa, through Secretary, Elementary & Secondary Education, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar & others.

...RESPONDENTS

SERVICE APPEAL

LIST OF BOOKS

1. Constitution of Islamic Republic of Pakistan, 1973.
2. All relevant service laws.
3. Other relevant case law will be cited at Bar.



...APPELLANT

Through

Dated: 06:11.2023


(MUHAMMAD RIAZ)
Advocate High Court, Abbottabad

2A/11



**OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (MALE)
KOHISTAN UPPER**

Email: ojko@kpk.gov.pk Phone No: 0998407178

No. 2877 /PST (Pr) /DEO (M) KU Dated: 13/07/2011

Attested
Muhammad Arif
Advocate High Court
03467113532

Statement of Allegations/ Show Cause Notice:

I, Muhammad Ashraf District Education officer (M) Kohistan Upper, the Competent Authority under Khyber-Pakhtunkhwa Government Servant Efficiency & Disciplinary Rules 2011, do hereby serve you, Mr. Muhammad Arif Senior Clerk SDEO (M) Dassu this show cause notice as follows:

1. You have approached Mr. Ibrahim (army personnel) the brother of Mr. Muhammad Memon, meritorious candidate of PST from adjacent UCs and demanded money bribes for your appointment as PST.
2. You have tried to defame the department of Education and office of the DEO (M) Kohistan Upper and tried to involve the office of the DEO in your fraudulent activities & demanding huge money and bribery from the candidates of PST for adjacent UCs. Your this poisonous act, caused the cream of whole education Department as well as defamed and demoralized the whole staff of this office.
3. This shows your inefficiency, misconduct & corruption specified in Rule 3 of ESD Rules 2011.

While going through the material on record the allegations, mentioned above, seems to be proved and you seems to be proved guilty of the charges under the provisions of ESD Rules 2011. Thus need of inquiry is hereby dispensed with under Rule 7 of the aforesaid rules.

As a result, therefore, I being the Competent Authority, have tentatively decided to impose on you any penalty mentioned in Rule 4(1) (a) & (b) of the ibid Rules.

You are, therefore, required to show cause as to why any penalty mentioned in Rule 4(1) (a) & (b) of the aforesaid Rules should not be imposed upon you and also intimate whether you desire to be heard in person.

If no reply on your behalf to this effect is received, to this office, within 07 days of issue of this show cause, it shall be presumed that you have no defense to put in and, in that case, Ex parte action will be taken against you.

District Education Officer (M)
Kohistan Upper

Acknowledgment: I, Mr. Muhammad Arif Senior Clerk received my copy.

Signature:
13/7/11

Date:

12/13
 ڈی اے او ایف کوپنٹان الہ
 B
 مہیا عالی

دوسرے دن کے لئے کہ مشورہ کارڈ ڈی اے او ایف 3244 مورے 07/13

گزارشیں دیکھیں کہ میں نے مشورہ کارڈ ڈی اے او ایف
 دیکھیں کہ میں نے اپنی ڈی اے او ایف سرانجام دے دیا ہے

1) مہیا عالی الہ ایس ایم نامی شخصیت جو کہ ارہی میں آئی ہے

مہیا عالی کو دیکھیں کہ وہ میرا بیٹا ہے اور وہ ہے جسے

اس دن دیکھیں کہ اس کی آئی اور مجھے کہہ کہ ڈی اے او ایف میں

PST کی پوزیشن کے لئے آئی اور پھر میں میں ہے جو

دیکھیں کہ میں نے اس سے کہا ہے کہ ڈی اے او ایف میں

میں نے کہا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ میں نے اس سے

2) اس کی دیکھیں کہ اس کی آئی اور مشورہ کارڈ ڈی اے او ایف کے بارے میں

3) الہ ایس ایم نامی شخصیت جو کہ میرا بیٹا ہے اور وہ ہے جسے

میں نے کہا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ میں نے اس سے

میں نے کہا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ میں نے اس سے

4) اگر میں نے اس سے کہا ہے کہ میں نے اس سے

میں نے کہا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ میں نے اس سے

5) مہیا عالی کے بارے میں کہ میں نے اس سے

13/B

جو اس وقت سرکاری طور پر جاری ہے

میرا یہ نامی صورت میں لکھ کر دیکھ کر اس کے لئے ہے
اور اس کے لئے کہ جس کے لئے یہ ہے۔ اس کے لئے ہے


(6) جب تک کہ یہ نہ ہو اس لئے کہ ایک ہی نام کا ہے
کے 50 ہزار یا ایک لاکھ یا دو لاکھ کوئی نام ہے اور میرے خلاف
ایک جان لیو کیس کے لئے لکھا ہے جو کہ میں ایک عرصہ پہلے سے
تعلق رکھتا ہوں جو کہ جسے اور میرے خاندانی کو ہرجا کرنے کی
کوشش ہے اس کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔
جو کہ اس کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔
اس کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔
اس کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔
اس کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔
اس کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔
اس کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔

Atty
[Signature]

آپ کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔
آپ کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔
آپ کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔
آپ کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔
آپ کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔
آپ کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔
آپ کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔
آپ کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔
آپ کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔
آپ کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔ اس کے لئے ہے۔

[Signature]

DEON DASH
[Signature]



OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (MALE)
KOHISTAN UPPER

سوالنامہ برائے پریسنگل ٹیسٹ

14/4

1. آپ کا نام اور درجہ (2) آپ کا پتہ لکھیں۔
3. آپ کا پتہ لکھیں۔
4. آپ اس وقت کہاں تعینات ہیں؟
5. آپ کو ایڈجوینٹ کا کیا کیریئر ہونے والی Appointment کہہ سکتے ہیں؟
6. کیا آپ نے ایڈجوینٹ کا Appointment کے سلسلے میں کسی ایڈووایٹ یا اس کے کسی دیگر عملی شعبہ سے بات / ٹیلی فون کیا ہے؟
7. اگر آپ نے Appointment کے سلسلے میں کسی ایڈووایٹ سے رابطہ کیا ہے تو ایسا کس کے لئے کیا ہے؟
8. دفتر ہذا کے علم میں یہ بات آئی ہے جس کے واضح ثبوت موجود ہیں کہ آپ نے متعدد ایڈووایٹس سے رٹم لے کر تصدیقی کی بات کی ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
9. آپ نے حکم تعلیم کے بالا افسران SDEO, D, DEO اور حکم تعلیم کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا آپ ایسا اس فعل پر ندامت سے؟
10. آپ نے ایسی آڈیو ٹیپ میں DEO آفس کے این ایڈووایٹ کا ذکر کیا ہے جسے آپ رشوت لے کر دیتے تھے اس کا نام بتائیں؟
11. آپ "DEO (m)" سے آفس اور آفس کے باہر کتنی بار تعلقات چھوٹی ہے؟

Attestd
[Signature]

C/15

12) کیا آپ نے DEC(F) میں تعیناتی کے دوران ایسا کام دیکھا ہے؟


13) آپ نے اپنی آڈیو میں ایکٹیشن آفس میں کمر لپٹیں یا ذکر کیا تھا اس بار میں آپ کے کھانگی کوئی شواہد ہیں؟ اگر ہیں تو مہیا کریں۔

14) SDEO(M) داسو آفس میں تعیناتی کے دوران تنخواہ بندش اور Release کے سلسلے میں کسی ٹیکر سے رشوت کی حد میں رقم لینے کا کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے تو فراہم کریں؟

15) Adjacent کے امیدواروں سے رشوت ڈیمانڈ کرنے کے آڈیو ثبوت اور شکایات کے بارے میں آپ کیا عذر پیش کرتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

16) آپ اپنی صفائی کچھ لکھنا چاہتے ہیں؟

مالیہ

Attested


15/16

جو اس پر مشتمل ہیں

Alhamdulillah

1) راجہ محمد عارف = ولد محمد فرخ مشہال

2) 13401-7349060-3

3) سینیئر ٹیکرکے

4) SDEO میل واسو

5) جسے البرائیم کی مثال سے معلوم ہوا تھا

6) البرائیم کی مثال آئی تھی

7) نہیں کسی کے کہنے پر نہیں

8) میں نے کسی سے کوئی رقم وصول نہیں کیا ہے

9) مجھے بہتے دلکھ اور آفسوں سے

10) ~~کوئی~~ DEO آفس کے کسی بندے سے رسی بارے

میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے

11) ایک بار وہ بھی ویسے صرف سلام ہوئی تھی

12) بائیکل نہیں

13) بائیکل نہیں ہے

14) بائیکل نہیں ہے

15) البرائیم کو فریاد دینے کے ساتھ میری پراپرٹی

کوئی رسی بھی نہیں تھی اس وقت کے ساتھ میں وزارت کے ساتھ

D/17

ہے اس میں کوئی وقت نہیں ہے اور یہ سچ ہی نہیں
ہے اگر سچ میں ایسا کرنا پھرنا تو میں نہیں اصرار کرو
اپنے پاس بلا کر ڈیمانڈ کرنا اظہارِ کینا ایسا کچھ نہیں ہے
نہ سچ ہے PDEO میں کے بندے ہانسی ہے اور نہ میں
نہ ہانسی ہے بلکہ ایک خرافے کا مور پھانسی ہے

(16) میں نے شوکارا کا جواب دیا ہے

Attest



7
31/07/083



OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (MALE)
KOHISTAN UPPER

Email: emskohistan@yahoo.com Phone No: 0998-407128

E/B

Attsted

OFFICE ORDER

1. WHEREAS Mr. Muhammad Arif Senior Clerk SDEO (M) Office Dassu was proceeded on public complaint submitted by Mr. Muhammad Ibrahim regarding demand of hush money/bribery by Mr. Muhammad Arif Senior Clerk, for appointment of his brother as PST from adjacent UCs, which constitute Inefficiency, misconduct & corruption under Rule-3 Sub Rules of the Khyber Pakhtunkhwa Government Servants (Efficiency & Discipline) Rules, 2011.
2. AND WHEREAS, Show Cause Notice was served upon him vide this office Memo: 3894 dated 13-07-2023 through Sub Divisional Education Officer (Male) Dassu, wherein he was asked to submit reply within 07 (seven days) of the issuance of said notice.
3. AND WHEREAS, on receipt of unsatisfactory reply of Show Cause Notice, he was summoned vide this office Memo: No. 3977 dated 19/07/2023 for personal hearing on 21/07/2023, the personal hearing conducted in the office of the undersigned in presence of ADEO litigation as representative of the Department. In which he confessed the charges leveled against him and failed to defend.
4. AND By reason of the above, charges leveled against him have been proved and he found guilty of corruption, misconduct, Inefficiency, professional dishonesty and fraudulent activities under Rule-3 of the Khyber Pakhtunkhwa Govt: Servants (E&D) Rules-2011.
5. NOW THEREFORE, the Competent Authority in exercise of the Power conferred under Sub Rules-4(1)(b)(i) of Khyber Pakhtunkhwa, Government Servant (Efficiency & Discipline) Rules-2011, is satisfied to impose major penalty of "Reduction from the post of Senior Clerk BPS-14 to lower scale post of Junior Clerk BPS-11 for three years" upon Mr. Muhammad Arif Senior Clerk SDEO (M) Office Dassu, with immediate effect.

- Sd -
District Education Officer (M)
Kohistan Upper

Endstt No. 4154-52 / Estt: (Pry) Dated: 27 /07/2023

Copy for information and necessary action forwarded to:

1. The PA to Director Elementary & Secondary Education, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar
2. The Deputy Commissioner Kohistan Upper
3. The District Accounts Officer Kohistan Upper
4. The SDEO (M) Dassu
5. Official concerned.

District Education Officer (M)
& Kohistan Upper

19/11/23

بخدمت جناب ڈائریکٹر ابتدائی و ثانوی تعلیم خیبر پختونخواہ پشاور۔

عنوان:- اپیل (DEPARTMENTAL APPEAL)

جناب عالی!

- ۱۔ یہ کہ سائل (Sub Divisional Officer (Male)) اسکو بہستان اپریل ایجوکیشنل کلرک (Senior Clerk) میں تعینات تھا۔
 - ۲۔ یہ کہ سائل نے اپنے ایک قریبی عزیز (رشتہ دار) جس کے ساتھ سائل کی اکثر لمبی دنوں پر بات چیت رہتی ہے۔ اسی طرح سائل نے اپنے اس رشتہ دار کے ساتھ کوہستان کے تعلیمی حالات میں بات چیت کے دوران گزشتہ اوارہ کے بارے میں لوگوں کے بہت سی خیالات کا ذکر کیا۔
 - ۳۔ یہ کہ سائل نے میری اس لمبی فونک بات چیت کو ٹیپ کیا جو کہ ہم دوسرے روز ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے۔
 - ۴۔ یہ کہ سائل کے اس عزیز کے ساتھ جب کسی وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے تو اس نے یہ آڈیو ریکارڈنگ ایجوکیشن آفیسر کو بہستان اپریل کو فراہم کی اور اس نے انہیں اکایا کر سائل نے اس کے بمبائی کی Appointmen کے لئے رشوت طلب کی ہے کہ جس کا قصہ صرف اور صرف ذالی واد تھا۔
 - ۵۔ یہ کہ سائل سب ڈویژنل آفس اور اس میں تعینات تھا جو کسی بھی طرح ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (سروران) کو بہستان اپریل میں تعیناتی کے عمل میں کسی قسم کا کوئی اختیار ہے۔
 - ۱۔ یہ کہ سائل کی فٹنگ ٹنٹلو کو بنیاد بنا کر سائل کو سب ڈویژنل کلرک (BPS-11) سے demote کر کے جونیئر کلرک (BPS-11) کر دیا گیا ہے۔
 - ۲۔ یہ کہ سائل 2007 میں ایجوکیشنل ڈیپارٹمنٹ میں بھرتی ہوا ہے اور اس بعد کوئی ایک ایسا کام سرزد ہوا ہے اور نہ ہی ملگ کو کوئی شکایت ملی ہے جس میں سائل کی فرائض منصبی میں کوتاہی دکھائی دے۔ سائل نے اپنی تعیناتی کے بعد پوری امانداری اور دیانت داری کے ساتھ اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں ادا کیں ہیں۔ سائل کی ایک ذاتی فٹنگ ٹنٹلو کو بنیاد بنا کر سرورینا انصاف کے تقاضوں کے برخلاف عمل ہے۔
- لہذا آپ جناب سے استدعا ہے کہ مندرجہ بالا گواہیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سائل کی demotion کو ختم کر کے جونیئر کلرک کی پوسٹ پر بحال کیا جائے تاکہ سائل پوری دیانت داری اور امانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ شکریہ
- مندرجہ ذیل دست دہا کر ہے گا

Attest
[Signature]

المعارض

SD/EO(m) D.A.S.H. ✓ JIC نمبر نمائندہ
08/08/2023


0345-9896808

DA
[Signature]

420
9-8-2023

[Signature]
09/08/2023

[Signature]



**DIRECTORATE OF ELEMENTARY & SECONDARY EDUCATION
KHYBER PAKHTUNKHWA PESHAWAR.**

No. E.No.281/A-23 MS Kohistan/Vol-IV

Phone: 091-9225344

Dated Peshawar the 11/08/23
Email: dd.admn.esc@gmail.com

Attested

Copy

20

To

The District Education Officer
(M) Kohistan Upper

Subject: DEPARTMENTAL APPEAL

Memo:

I am directed to refer to the subject noted above and to enclose herewith an appeal alongwith its enclosure received from Mr. Muhammad Arif J/Clerk SDEO (M) Dassu Kohistan Upper received vide this office diary No. 420 dated 09-08-2023 and to ask you to submit detail report/comments at an early date for further necessary action please.

Assistant Director (Admn)
Directorate E& Secondary Education
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar

Encls: No. 503

Copy forwarded to the: -


1. Mr. Muhammad Arif J/Clerk SDEO (M) Dassu Kohistan Upper.
2. SDEO (M) Dassu Kohistan Upper.
3. PA to Director Elementary & Secondary Education Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
4. Master File.

Assistant Director (Admn)
Directorate E& Secondary Education
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar

11/8/2023

A181189

44/21



Alexander
Advocate High Court
9357113332

بیانہ جلیبی

حذرت مسٹر نور احمد ایچ جی اور ولایت لور رقم نمبر 100 کے تحت ایک کھول کر کے دیکھا گیا ہے اور اس میں سے کچھ روپے نکلے۔ اس کے ساتھ ہی ایک نوٹ لکھا گیا ہے کہ اس کے ساتھ سے ملازمت میں بھرتی کرنے کیلئے رقم کی رقم یاد دلائی جاتی ہے۔

اقرار کیا گیا ہے کہ یہ سب میں نے شخص ذوالی ریجنس کی بناء پر کیا تھا۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہذا راجہ محمد عارف کو مذکورہ گناہ ہے۔ اس نے کبھی مجھ سے کبھی قسم کی کسی بھی رقم کا کوئی مطالبہ یا رقم یاد نہیں کیا ہے۔ نہ کوئی رقم لی ہے اور نہ میں نے

ذرا راجہ محمد عارف کو مذکورہ گناہ ہے۔ اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کی جائے۔

مورخ 14-5-23

(M. M.)

13401-9294554-3

204-01
14-5-23

محمد عارف (مذکورہ) عدالت عالیہ لاہور میں سزا کا حکم
13401-3239385-7
محمد عارف (مذکورہ) عدالت عالیہ لاہور میں سزا کا حکم
13401-6679759-7

22

OFFICE OF MUHAMMAD RIAZ
Advocate High Court, office at Abbottabad

To

1. Govt. of Khyber Pakhtunkhwa, through Secretary, Elementary & Secondary Education, Peshawar.
2. Director, Elementary & Secondary Education, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
3. District Education Officer (Male), Kohistan Upper.

Subject: NOTICE OF FILING OF SERVICE APPEAL.

On the instructions of my client, Raja Muhammad Arif son of Muhammad Khushal, resident of Dassu, Tehsil Dassu, District Kohistan Upper, presently at GHS Pero Bela, Kohistan Upper, a service appeal is being filed before the Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal, Peshawar. A notice/ intimation of the same is being sent to you for your information.

Dated: 06.11.2023

(MUHAMMAD RIAZ)
Advocate High Court, Abbottabad
Office No.56, Ayub Tanoli Lawyers Plaza,
Kutchery Compound, Abbottabad
Cell 0346-7113532

23 (ایسٹ آباد)

کورٹ فیس

وکالت نامہ

بعدالت کسٹومرز ایسوسی ایشن

عنوان: راجہ عارف بنام حکومت سندھ

منجانب: صاحبزادہ

تعمیرت مقدمہ:

باعث تحریر آنکے

مقدمہ مندرجہ میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دی کل کاروائی متعلقہ آن مقام
محمد رفیق ایدہ صاحبی و ریل

کو وکیل مقرر کر کے اقرار کرتا ہوں کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کاروائی کا کمال اختیار ہوگا نیز وکیل
صاحب موصوف کو کرنے راضی نامہ و تقرر ثالث و فیصلہ بر حلف و دینے اقبال و دعویٰ اور بصورت دیگر ڈگری
کرانے اجراء وصولی چیک روپیہ و عرضی دعویٰ کی تصدیق اور اس پر دستخط کرنے کا اختیار ہوگا اور بصورت
ضرورت مقدمہ مذکور کی کل یا کسی جزوی کاروائی کے لئے کسی اور وکیل یا مختار صاحب قانونی کو اپنے ہمراہ اپنی
بجائے تقرر کا اختیار بھی ہوگا اور صاحب مقرر شدہ کو بھی وہی اور ویسے ہی اختیارات ہوں گے اور اس کا
ساختہ پرداخت مجھ کو منظور و قبول ہوگا۔ دوران مقدمہ جو خرچہ ہر جانبہ التوائے مقدمہ کے سبب ہوگا اس کے
مستحق وکیل صاحب ہوں گے۔ نیز بقایا رقم وصول کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ اگر کوئی پیشی مقام دورہ پر ہو یا
حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب موصوف پابند ہوں گے کہ پیروی مقدمہ مذکورہ کریں اور اگر مختار مقرر کردہ میں
کوئی جزو بقایا ہو تو وکیل صاحب موصوف مقدمہ کی پیروی کے پابند نہ ہوں گے۔ نیز درخواست برادر
استجارت ناش بصیغہ مفلسی کے دائرہ کرنے اور اس کی پیروی کا بھی صاحب موصوف کو اختیار ہوگا۔

لہذا وکالت نامہ تحریر کیا تاکہ

ACCEPTED

الرقوم: 6/11/2023

بمقام: